



سوال

(59) کیا عورت ماہواری کے ایام میں درس و تدریس کر سکتی ہے؟

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

کیا کوئی عورت ماہواری کے دنوں میں مسجد میں آکر درس و تدریس کر سکتی ہے؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

1- ماہواری کے ایام میں عورت کے لیے مسجد میں ٹھہرنا اور درس و تدریس کرنا جائز نہیں ہے، چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے :

قالت: سمعت عائشہ رضی اللہ عنہا تقول: جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ووجوه بیوت أصحابہ شارعة فی المسجد، فقال: «وجہوا ہذہ البیوت عن المسجد». ثم دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ولم یضغ القوم شیئا رجا أن تنزل فیہم رخصتہ، فخرج إلیہم بعد فقال: «وجہوا ہذہ البیوت عن المسجد، فإنی لأحل المسجد لحائض ولا جنب» (رواہ البیہقی - بحوالہ فقہ السنن ج ۱ ص ۵۹)

”صحابہ کے گھروں کے دروازے مسجد میں کھلتے تھے۔ آپ نے فرمایا: دروازہ کو مسجد سے پھیر لو۔ مگر صحابہ نے رخصت کی امید پر اس حکم پر عمل نہ کیا، پھر آپ نے دوبارہ فرمایا کہ اپنے گھروں کے دروازوں کو رخ پھیر لو، میں مسجد کو حائضہ عورت اور جنبی مرد کے لیے حلال نہیں کر سکتا، یعنی ماہواری والی عورت اور جنبی مرد کو مسجد میں ٹھہرنا جائز نہیں۔“

عن أم سلمة، قالت: دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرحاً بہذا المسجد، فنادی بأعلى صوته: «إن المسجد لا یحل للجنب، ولا للحائض» (رواہ ابن ماجہ والطبرانی - حوالہ ایضاً -)

”رسول اللہ ﷺ مسجد کے آگے میں تشریف لائے اور باوازی بلند فرمایا کہ مسجد میں حائضہ اور جنبی کا قیام حرام ہے۔ ہاں، گزر جائز ہے۔“

محقق عصر حاضر الشیخ السید محمد سابق مصری ارقام فرماتے ہیں :

والحدیثان یدلان علی عدم حل اللبس فی المسجد والمسک فیہ للحائض والجنب لکن یرخص لهما فی امتیازہ بقول اللہ تعالیٰ (ولاجنب الاعرابی سبل حتی تعسلا)

”یہ دونوں احادیث اس کی دلیل ہیں کہ ماہواری والی عورت اور جنبی کے لیے مسجد میں قیام کرنا اور ٹھہرنا جائز نہیں۔ ہاں وہ دونوں مسجد میں سے گزر سکتے ہیں۔“

لہذا ان دونوں احادیث سے ثابت ہوا کہ حائضہ عورت کے لیے مسجد میں ٹھہرنا جائز نہیں۔ جمہور علماء کے نزدیک حائضہ عورت اپنے گھروں میں تلاوت نہیں کر سکتی۔ چہ جائیکہ وہ مسجد



میں بیٹھ کر درس و تدریس کرے۔ واللہ اعلم۔

ہذا ما عندي واللہ اعلم بالصواب

فتاویٰ محمدیہ

ج 1 ص 300

محدث فتویٰ